

**ابم معلومات**

باوجودیکہ روزمرہ کی زندگی معمول کے مطابق ظاہر ہوتی ہے لیکن کورونا کی چھوٹ بماری درمیان موجود ہے۔

اور اگر ہم احتیاط نہیں کرتے تو چھوٹ بڑھ سکتی ہے۔

لہذا آپ کو ابم ترین مشورے دیے جاتے ہیں کہ آپ خود اپنے اور دوسروں کے بچاؤ کے لئے کیا کرسکتے ہیں۔

**اگر کووید-۱۹ کے ضمن میں
آپ کے ذہن میں کوئی سوال
بو تو ٹیلی فون نمبر**

70 20 02 33

پر رابطہ کریں۔

**فاصلہ
باتھ ملانے اور گلے ملنے سے اجتناب کریں**

- جن لوگوں کے ساتھ رہتے نہ ہوں ان سے کم از کم ایک میٹر کا فاصلہ برقرار رکھیں۔

اس بات کا اطلاق ان تمام صورتوں میں ہوتا ہے، مثال کے طور پر جب آپ خریداری کے لئے جائیں، جب آپ اپنے بچوں کو اداروں سے لین، جب آپ کام پہ ہوں، جب آپ پارٹی میں ہوں یا اپنے دوستوں سے ملیں۔

باتھوں کی صفائی ستھرائی

- اپنے باتھ ایک منٹ تک دھویں یا سینیٹائزر استعمال کریں۔

جب آپ گھر سے جائیں اور واپس آئیں، ملازمت کی جگہ میں آتے جاتے وقت ایسا کریں۔

- جب آپ کھانا پکائیں، کھانا کھانے سے پہلے اور جب آپ نے ناک صاف کیا ہو اس وقت ایسا کریں۔ اور یقینی طور پر وہ صفائی کریں جو آپ ٹوائیلٹ استعمال کرنے کے بعد کرتے ہیں۔

جب آپ سُستی محسوس کریں تو گھر میں ہی رہیں۔

اگر آپ سُستی محسوس کریں تو گھر میں بی رہیں، مثلاً آپ کو بخاربو، گلے میں درد یا آپ کھانستے ہوں۔

ابنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں یا ۱۸۱۳ پر فون کر کے یہ معلوم کریں آیا آپ کو کورونا وائرس کا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے۔

بوا لگوائیں

روزانہ صبح، دوپہر اور شام کو ۱۰ منٹ تک کھڑکیاں اور دروازے کھلے رکھیں۔

